

Alfalah Islamic Fleet Finance Application Form

الفلاح اسلامك فليٲ فنانس كيلئر درخواست فارم



Bank Alfalah
Islamic Premier

Branch Manager _____
برانچ مینجر

Date _____
تاریخ

I/We hereby apply for financing facility from your Bank under Alfalah Islamic Fleet Finance. My/Our particulars are as follows:
میں / ہم آپ کے بینک سے فنانشنگ کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست دینا چاہتا ہوں / چاہتی ہوں / چاہتے ہیں۔ میری / ہماری کوآف مندرجہ ذیل ہیں:

1. Information of the Applicant کسٹمر کی معلومات

a) Name of the Entity/Customer ایٹیٹیٹی / کسٹمر کا نام _____

b) Type of Entity ایٹیٹیٹی کی قسم

Sole Proprietorship انفرادی کاروبار

Partnership شراکت دار

Private Limited Company پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی

Other (Clubs, Societies, Associations, Trusts, etc.) (please specify) _____

دیگر (کلب، سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز، ٹرسٹ وغیرہ) (برائے مہربانی وضاحت کریں)

c) Type of Business کاروبار کی قسم

Industrial/Manufacturing صنعتی / مینوفیکچرنگ

Services خدمات

Commercial/Trading کمرشل / تجارتی

Other (please specify) دیگر (برائے مہربانی وضاحت کریں) _____

d) Sector شعبہ

Engineering انجینئرنگ

Food Processing فوڈ پراسیسنگ

Health صحت

Textile ٹیکسٹائل

Education تعلیم

Iron & Steel آئرن اور اسٹیل

Leather چمڑا

Chemical کیمیائی اشیاء

Furniture and Handicrafts فرنیچر و دستکاری

Travel Agent ٹریول ایجنٹ

Transport ٹرانسپورٹ

Other (please specify) دیگر (برائے مہربانی وضاحت کریں) _____

e) Date of Establishment کاروبار کے قیام کی تاریخ _____

f) Date of Incorporation تشکیل کی تاریخ _____

g) National Tax Number نیشنل ٹیکس نمبر _____

h) Business Registration No. کاروبار کارجسٹریشن نمبر _____

i) Credit Rating (where applicable) کریڈٹ ریٹنگ (جہاں لاگو ہو) _____

j) Name of Credit Rating Agency کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا نام _____

k) Brief Description of the Business کاروبار کی مختصر تفصیل _____

l) Registered Address رجسٹرڈ پتہ _____

m) Correspondence Address خط و کتابت کا پتہ _____

n) Contact Person's name شخص کا نام برائے رابطہ _____

Position عہدہ _____

Telephone Number فون نمبر _____

Office Fax Number (دفتر) فیکس نمبر _____

Mobile Number موبائل نمبر _____

Takaful Company's Name _____
تکافل کمپنی کا نام

Purpose of Finance _____
فنانسنگ کا مقصد

4. References (Other than Related Company) (حوالہ جات (متعلقہ کمپنی کے علاوہ)

1. Name نام _____

Designation عہدہ _____

Company's Name کمپنی کا نام _____

Office No. فون نمبر (دفتر) _____

Mobile No. موبائل نمبر _____

Office Address آفس کا پتہ _____

2. Name نام _____

Designation عہدہ _____

Company's Name کمپنی کا نام _____

Office No. فون نمبر (دفتر) _____

Mobile No. موبائل نمبر _____

Office Address آفس کا پتہ _____

5. Declaration (please read carefully)

I/We confirm that all particulars/information/documents provided above are true, complete and accurate and I/we have not withheld any information. I/We confirm that I/we have no insolvency proceedings initiated against me/us nor have I/we ever been adjudicated insolvent or convicted for financial impropriety/money laundering. I/We authorise Bank Alfalah Limited Islamic Banking Group (IBG) or its agent(s) to seek references and inquiries relative to information in this application, without informing me/us, which Bank Alfalah Limited-IBG considers necessary. I/We authorise Bank Alfalah Limited-IBG to exchange, share, part with any or all information relating to my/our facility(ies) account(s) to other banks/financial institutions/credit bureau/regulatory authorities as may be required and shall not hold Bank Alfalah Limited-IBG liable for use of this information. I/We agree and acknowledge that the Bank reserves the right to reject this application without assigning/giving any reason. I/We authorise the Bank to make any inquiries the Bank considers necessary to verify the information for credit assessment purpose. I/We also understand that any wrong information provided by me/us or withheld would render my/our application liable to rejection.

I/We further confirm that no other application for financing facility(ies) has been made to any other branch of Bank Alfalah Limited-Islamic Banking Group. I/We also confirm that Bank Alfalah Limited-IBG has declined no application for financing facility(ies) in the past (if declined, please state reasons).

I/We acknowledge and agree that all information including personal data provided by me/us may be used and disclosed by the Bank for such purpose and to such persons in accordance with the Bank's policies on use and disclosure of personal data.

ڈیکلیریشن (برائے مہربانی احتیاط سے پڑھ لیں)

میں/ہم اقرار کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ میری/ہماری جانب سے فراہم کردہ تمام معلومات میری/ہماری معلومات اور یقین کے مطابق درست، مکمل اور سچ پر مبنی ہیں۔ میں/ہم نے کوئی معلومات چھپائی نہیں ہیں اور یہ کہ میں/ہم تصدیق کرتا ہوں/کرتے ہیں کہ میرے/ہمارے خلاف دیوالیہ پن کا کوئی مقدمہ زیر سماعت نہیں ہے اور نہ ہی میں/ہم کبھی

ایسے کسی مقدمے/منی لائٹرننگ میں ملوث رہا/رہی/رہے ہیں۔ میں/ہم تصدیق کرتا/کرتی/کرتے ہیں کہ بینک اپنی صوابدید پر وجہ بتائے بغیر میری/ہماری درخواست کو رد کر سکتا ہے۔ میں/ہم بینک الفلاح لمیٹڈ اسلامک بینکنگ گروپ (IBG) یا اسکے مقررہ ایجنٹس کو اختیار دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں کہ وہ حوالے کیلئے کسی سے بھی رابطہ کر کے اس درخواست فارم میں درج میری/ہماری جانب سے فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں/ہم اختیار دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں کہ بینک الفلاح لمیٹڈ اسلامک بینکنگ گروپ (IBG) بینک الفلاح لمیٹڈ مجھے/ہمیں بتائے بغیر کسی دوسرے بینک/کسی مجاز اتھارٹی/حکومتی ایجنسی کو میرے/ہمارے اس فنانشنگ کی سہولت سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کر سکتا ہے اور یہ کہ میرے/ہمارے حوالے کے بغیر کسی مجاز عدالت کو متعلقہ قوانین کے تحت اور/یا بینک کے مفاد میں میری/ہماری کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ کریڈٹ کی تشخیص کے لیے میں/ہم بینک کو اختیار دیتا ہوں/دیتی ہوں/دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرے۔ میں/ہم سمجھتا/سمجھتی ہوں/سمجھتے ہیں کہ کسی غلط بیانی/معلومات کو پوشیدہ رکھنے کی صورت میں بینک میری/ہماری درخواست کو رد کر سکتا ہے۔

میں/ہم مزید اقرار کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ میری/ہماری جانب سے بینک الفلاح لمیٹڈ اسلامک بینکنگ گروپ کی کسی دوسری برانچ میں فنانش کی سہولت کے حصول کی کوئی دوسری درخواست نہیں دی گئی۔ میں/ہم مزید اقرار کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ بینک الفلاح لمیٹڈ نے میری/ہماری فنانشنگ کی کوئی درخواست ماضی میں رد نہیں کی۔ (اگر رد کی گئی ہے تو وجہ بیان کریں)۔

میں/ہم بینک کو اختیار دیتا ہوں/دیتی ہوں/دیتے ہیں کہ بینک الفلاح لمیٹڈ اسلامک بینکنگ گروپ متعلقہ بینک کی پالیسی کے مطابق میری/ہماری ذاتی معلومات کو فاش کر سکتا ہے۔

Authorised Signature (with company stamp)

مجاز دستخط مع کمپنی کی مہر

Authorised Signature (with company stamp)

مجاز دستخط مع کمپنی کی مہر

Authorised Signature (with company stamp)

مجاز دستخط مع کمپنی کی مہر

Authorised Signature (with company stamp)

مجاز دستخط مع کمپنی کی مہر

6. Bank Use only صرف بینک کے استعمال کیلئے

ذرائع Source	
وصولی کی تاریخ Date Received	
مارکیٹنگ آفیسر Marketing Officer	


7. Documents Required درکار دستاویزات

<p>For Sole Proprietorship</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy of CNIC (Original Seen by the bank's official) • Copy of NTN Certificate • Evidence of customer being on the Active Tax Payer list (if available in case the client is not on active tax payer list then the credit request should specifically mention the same) • Latest three years income / wealth tax returns; • A letter from the banker confirming that he is the sole proprietor of the firm; • Latest 12 months Bank Statements; • One recent passport size photograph; • A copy of Business Registration Certificate, if any; • Financial Statements for the last 3 years signed as per SBP PRs. • Membership Certificate • Duly completed CBFS – on SE format • If documents are in the personal name of the customer party availing finance) a Proprietorship Account should be opened at initiating Branch & facility should be booked in the name of Proprietorship. 	<p>انفرادی کسٹمر کیلئے</p> <ul style="list-style-type: none"> • کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (بینک کے نمائندے کی جانب سے اصل سے تصدیق کی گئی) • NTN سرٹیفکیٹ کی نقل • ثبوت کہ کسٹمر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہے (اگر دستیاب ہو، اگر کلانٹ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہیں ہے تو کریڈٹ کی درخواست/ایڈوانس میں اس کا خاص طور پر حوالہ دیا جائے گا) • گذشتہ 3 سال کے انکم/ویلتھ ٹیکس ریٹرن • بینکر کی جانب سے خط جس سے جس سے کسٹمر کے کاروبار کا مالک ہونا ثابت ہو۔ • گذشتہ 12 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ کی نقل۔ • ایک حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر • بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی نقل، اگر دستیاب ہو۔ • گذشتہ 3 سال کے فنانشل اسٹیٹمنٹ، SBP کے PR قواعد کے مطابق دستخط شدہ • ممبر شپ سرٹیفکیٹ • SE فارمیٹ پر مکمل پر کیا ہوا CBFS • اگر دستاویزات کسٹمر کے ذاتی نام پر ہیں (فنانشنگ کی سہولت حاصل کرنے والی پارٹی)، تو فنانشنگ کے پروسیس کو شروع کرنے والی برانچ پر پروپرائیٹرز شپ اکاؤنٹ کھولا جائے گا، اور فنانشنگ کی سہولت پروپرائیٹرز کے نام پر بک کی جائے گی۔
<p>For Partnership</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy of CNIC of all partners (checked to the original by the Bank's official); • Attested copy of "Partnership Deed"; • Attested copy of Registration Certificate with the Registrar of Firms, if any; • Last 12 months Bank's statement • Copy of NTN Certificate • Last three years Income Tax Returns of partners and the firm and Wealth Tax Returns of partners • Financial Statements for the last three years signed as per Prudential Regulations • Membership certificate • Duly completed CBFS – on SME format 	<p>پارٹنرشپ کیلئے</p> <ul style="list-style-type: none"> • کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (بینک کے نمائندے کی جانب سے اصل سے تصدیق کی گئی) • پارٹنرشپ ڈیڈ کی تصدیق شدہ نقل • رجسٹرار آف فرمز کے پاس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی نقل (اگر ہو) • گذشتہ 12 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ • NTN سرٹیفکیٹ کی نقل • پارٹنرز اور فرم کے گذشتہ 3 سال کے انکم ٹیکس ریٹرن، اور پارٹنرز کے ویلتھ ٹیکس ریٹرن • گذشتہ 3 سال کے فنانشل اسٹیٹمنٹ، قواعد کے مطابق دستخط شدہ • ممبر شپ سرٹیفکیٹ • SME فارمیٹ پر مکمل پر کیا ہوا BBFS (انفرادی کسٹمرز کیلئے)
<p>For Clubs/Societies/Associations/Trusts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attested copies of Certificate of Registration (except for Trusts which is not required); • Attested copies of by-laws / Rules & regulations; • Certified copy of 'Instrument of Trust/trust Deed' (in case of Trust) • Copies of CNICs of the members of the Governing Body / Executive Committee/Trustees (checked original by the Bank's official) • Latest 12 months Bank's Statement; • Copy of NTN Certificate • Duly completed CBFS – on corporate format • These customers can only be accommodated after having specific approval from applicable Approving Authority Level, as mentioned above. 	<p>کلب، سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز، ٹرسٹ کیلئے</p> <ul style="list-style-type: none"> • رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقل (ماسوائے ٹرسٹ، جو درکار نہیں) • بائی لاز، قواعد و ضوابط کی تصدیق شدہ نقل • ٹرسٹ کی صورت میں انسٹرومنٹ آف ٹرسٹ / ٹرسٹ ڈیڈ کی تصدیق شدہ نقل • گورننگ باڈی / ایگزیکٹو کمیٹی / ٹرسٹیز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل (بینک کے نمائندے کی جانب سے اصل سے تصدیق) • گذشتہ 12 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ • NTN سرٹیفکیٹ • مکمل پر کیا ہوا CBFS (کارپوریٹ فارمیٹ پر) • ان کسٹمرز کیلئے اوپر وضاحت کی گئی خصوصی منظور کنندہ اتھارٹی لیول سے منظوری کے بعد ہی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔

<p>For Limited Company</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certified copies of: <ul style="list-style-type: none"> i) Memorandum & Articles of Association; ii) Certificate of Incorporation; iii) Certificate of Commencement of Business; • Attested photocopies of CNIC of all directors; • Latest list of Directors on Form 29 and 'A' issued by the Registrar of Joint Stock Company / Security & Exchange Commission of Pakistan (SECP); • Latest 12 months Bank's Statement; • Copy of list of directors duly attested by the company secretary with CNIC number and specimen signature of each director (in case of Pvt.& Public Ltd. Cos.) 	<p>لمیٹڈ کمپنی کیلئے</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصدیق شدہ نقل <ul style="list-style-type: none"> (i) میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن (ii) سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن (iii) سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس • تمام ڈائریکٹران کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ تقول • فارم 29 اور 'A' پر جو انٹنٹ اسٹاک کمپنی / سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رجسٹرار سے جاری کردہ ڈائریکٹرز کی حالیہ فہرست • گذشتہ 12 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ • کمپنی سیکریٹری کی جانب سے تصدیق شدہ ڈائریکٹران کی لسٹ مع ہر ڈائریکٹر کے CNIC نمبر اور نمونے کے دستخط (پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں)
--	---

Note: Additional documents may be required (if needed)

نوٹ: اضافی دستاویزات طلب کی جا سکتی ہیں (ضرورت پڑنے پر)



Bank Alfalah

Islamic Premier

111 225 226

bankalfalah.com